

سٹی آف برامپٹن خواتین کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی میزبانی کر رہا ہے

برامپٹن، آن (20 فروری 2020) – خواتین کے عالمی دن کی رنگا رنگ تقریبات کی خوشیاں منانے کے لیے سٹی ہال میں بروز اتوار مورخہ 8 مارچ کو صبح 10 بجے سے دن 2 بجے تک سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں، جس میں ورکشاپس، جشن کی واک، فن کے براہ راست مظاہرے اور ہلکی پھلکی ریفریشمنٹس بھی شامل ہوں گی۔

میئر پیٹرک براؤن، علاقائی کونسلر روبینا سینٹوس اور سٹی کونسلر چارمین ولیمز کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس جشن میں سٹی ٹی وی کی کرسٹینا ہورون بطور ماسٹر آف سیریمینز اور کلیدی مقرر اور محترمہ جین آگسٹین بطور کوئین کی پریوی کونسل کی ممبر اور آرڈر آف کینیڈا کی ہم نشین کے طور پر شریک ہوں گی۔ مسماہ آگسٹین نے 1993 میں کینیڈا کے ہاؤس آف کامنز کے لیے منتخب ہونے والی کینیڈا کی پہلی افریقی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کی۔

زونٹا کلب آف برامپٹن اور کیلیڈون صبح 10 تا دن 12 بجے تک ورکشاپس کا درج ذیل سلسلہ پیش کریں گے:

- کامیاب کاروباری خواتین (Successful Women in Business)
- سیاست میں با اختیار خواتین (Powerful Women in Politics)
- صنفی مساوات اور برابری کے لیے جنگ اور وکالت (Fighting for Gender Equity, Equality and Advocacy)
- ماؤں کو با اختیار بنانا (Empowering Mothers)
- نوجوانوں کو وابستہ رکھنا (Engaging Youth and Teens)
- دماغ، روح، صحت اور تندرستی (Mind, Soul, Health and Well-being)
- مختلف ثقافتوں اور عقائد کی حامل خواتین کو ترغیب دینا (Inspiring Women of Culture and Faith)
- STEM میں موجود خواتین (Women in STEM)

تمام ورکشاپس میں شرکت مفت ہے مگر رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ شرکت کے متمنی افراد سے گزارش ہے کہ وہ 28 فروری تک اپنی شرکت کی تصدیق بذریعہ corporate.events@brampton.ca کر دیں۔

ہر کسی کو دعوت دی جاتی ہے کہ دن 12 بجے منعقد ہونے والی جشن کی واک میں شرکت کے لیے تشریف لائیں، جو ڈیلی ٹائمز اسکوائر، کوئین اسٹریٹ سے مین اسٹریٹ ساؤتھ کے ساتھ، تا سٹی ہال اٹریم تک منعقد کی جائے گی۔ تقریب کا باضابطہ آغاز دن 12:30 پر ہو گا، جس میں تقریریں اور فن کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے اور برامپٹن سٹی کونسل کی ماضی اور موجودہ خواتین اراکین کی خدمات کو باضابطہ طور پر خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔

خواتین کا عالمی دن خواتین کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کو منانے کا عالمی دن ہے۔ اس میں صنفی مساوات کی کاوشوں کو تیز کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اس سال کی مہم کا مرکزی خیال ایچ فار ایکونل (EachforEqual#) ہے۔

خواتین کے عالمی دن پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"ہمارے شہر کی تعمیر و ترقی میں خواتین کی بے پناہ شراکت اور برامپٹن سٹی کونسل میں خدمات انجام دینے والی مضبوط خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے سے ہماری متنوع کمیونٹی پھولوں کے ایک خوبصورت گلدستے کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ تقریبات نہ صرف یہاں برامپٹن کی خواتین بلکہ پورے کینیڈا اور پوری دنیا کی خواتین کی کامیابیوں کی خوشیاں منانے کا ایک نادر موقع ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ان تقریبات کی شریک میزبانی کرنا ہمارے لیے نہایت فخر کا باعث ہے کیونکہ ہیل ریجن میں پہلی مرتبہ ایک فلپائنی خاتون منتخب ہوئی ہے۔ اس طرح کی تقریبات خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے ہماری مضبوط وکالت اور آگاہی کی کوششوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ برامپٹن کی تمام کمیونٹیز کی خواتین اور مرد، خواتین کے کارناموں کی خوشیاں منانے میں ہماری ورکشاپوں کے بحث و مباحثوں میں شامل ہوں گے اور صنفی توازن کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔"

- روینہ سینتوس، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5

برامپٹن کی پہلی سیاہ فام خاتون کونسلر ہونے کی حیثیت سے، مجھے اس تقریب کی میزبانی کرنے اور ایسی خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے پر بہت فخر ہے جو مجھ سے پہلے آئیں اور میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ محترمہ جین آگسٹین کی تعلیم، سیاست اور معاشرتی مقاصد میں بہت سی کامیابیوں جیسی شاندار مثالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، خواتین کا عالمی دن ہمارے تمام کارناموں کی خوشیاں منانے کا ایک شاندار موقع ہے۔"

- چارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca